

Exo

Chapter 24

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | וְאֵל- | מֹשֶׁה | אָמַר | עָלָה | אֶל- | יְהוָה | אָתָּה | וְאַהֲרֹן | נָדָב | וְאַבִּיהוּא | וְשִׁבְעִים |
| | اور-کو- | موسیٰ | کہا | چڑھ-کر | پاس- | یہوواہ-کے | تو | اور-بارون | ناداب | اور-ابیہو | اور-ستر |
| | H0413 | H4872 | H0559 | H5927 | H0413 | H3068 | | H0175 | H5070 | H0030 | H7657 |
| | | مَزْكِنِي | يَسْرَأِيلَ | وَالسَّخَّرِيَّتِم | مِرْحَق: | | | | | | |
| | | بزرگوں-میں-سے | اسرائیل-کے | اور-سجدہ-کرو | دور-سے | | | | | | |
| | | H2205 | H3478 | H7812 | H7350 | | | | | | |

کرو۔ سجدہ مجھے کر ہو کھڑے پر فاصلے کچھ آئیں۔ اوپر پاس میرے بزرگ 70 کے اسرائیل اور ابیہو ندب، بارون، [تو، کہا، سے موسیٰ نے رب

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 2 | وَنָدַش | مֹשֶׁה | לְבָדוֹ | אֶל- | יְהוָה | וְהִם | לֹא | יָנְשׂוּ | וְהָעָם | לֹא | יַעֲלֶוּ |
| | اور-قریب-آئے | موسیٰ | اکیلا | پاس- | یہوواہ-کے | اور-وہ | نہ | قریب-آئیں | اور-قوم | نہ | چڑھے |
| | H5066 | H4872 | H0905 | H0413 | H3068 | H1992 | H3808 | H5066 | | H3808 | H5927 |

عَمُو:

اُس-کے-ساتھ

چڑھیں۔ [نہ پر پہاڑ ساتھ تیرے لوگ باقی کے قوم اور رہیں۔ دُور دوسرے آ، قریب میرے ہی اکیلا تو صرف

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3 | وַיָּבֵא | مֹשֶׁה | וַיְסַפֵּר | לָעָם | אֵת | כָּל- | דְּבָרֵי | יְהוָה | וְאֵת | כָּל- | הַמְשַׁפְּטִים |
| | اور-آیا | موسیٰ | اور-سنایا | قوم-کو | کو | سارے- | کلام | یہوواہ-کے | اور-کو | سارے- | احکام |
| | H0935 | H4872 | | | H0853 | H3605 | H1697 | H3068 | H0853 | H3605 | H4941 |
| | اور-جواب-دیا | ساری- | قوم-نے | آواز | ایک | اور-کہا | سارے- | کلام | جو- | کہا | یہوواہ-نے |
| | | H3605 | | | H0259 | H0559 | H3605 | H1697 | | H1696 | H3068 |

نִפְשָׁה:

کریں-گے

گے۔ [کریں عمل پر باتوں تمام ان کی رب [ہم کہا، کر مل نے سب میں جواب کئے۔ پیش احکام اور باتیں تمام کی رب کر جا پاس کے قوم نے موسیٰ تب

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4 | וַיְכַתֵּב | מֹשֶׁה | אֵת | כָּל- | דְּבָרֵי | יְהוָה | וַיְשַׁכֵּם | בְּבֹקֶר | וַיָּבִין | מִזְבְּחִים |
| | اور-لکھا | موسیٰ-نے | کو | سارے- | کلام | یہوواہ-کے | اور-صبح-سویرے-اٹھا | صبح-کو | اور-بنایا | قربان-گاہ |
| | H3789 | H4872 | H0853 | H3605 | H1697 | H3068 | H7925 | H1242 | H1129 | H4196 |
| | تخت | تہار | وشرایم | عشرہ | مذبحہ | لشایم | عشر | شبیو | یسرائیل: | |
| | نیچے | پہاڑ-کے | اور-بارہ | دس | ستون | بارہ-کے-لیے | دس | قبیلوں | اسرائیل-کے | |
| | H8478 | H2022 | H8147 | H6240 | H4676 | H8147 | H6240 | H7626 | H3478 | |

نے اُس ہی ساتھ بنائی۔ گاہ قربان نے اُس میں دامن کے اُس گیا۔ پاس کے پہاڑ اور اٹھا سویرے صبح وہ دن اگلے لیں۔ لکھ باتیں تمام کی رب نے موسیٰ تب کیا۔ کھڑا ستون کا پتھر ایک ایک لئے کے قبیلے ایک ہر کے اسرائیل

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 5 | וַיִּשְׁלַח | אֶת- | נְעָרָיו | בְּנֵי | יִשְׂרָאֵל | וַיַּעֲלֶוּ | עֹלֹת | וַיִּזְבְּחוּ | זְבָחִים |
| | اور-بھیجا | کو- | نوجوانوں | بنی | اسرائیل-کے | اور-چڑھائیں | سوختنی-قربانیاں | اور-ذبح-کیں | ذبیحے |
| | H7971 | H0853 | H5288 | | H3478 | H5927 | | H2076 | H2077 |
| | سَلَامִים | לַיהוָה | פָּרִים: | | | | | | |
| | سلامتی-کے | یہوواہ-کے-لیے | بیل | | | | | | |
| | H8002 | H3068 | H6499 | | | | | | |

کو بیلوں جوان اور چڑھائیں قربانیاں والی ہونے بہسم میں تعظیم کی رب وہ تاکہ بلایا لئے کے کرنے بیش قربانی کو نوجوانوں اسرائیلی کچھ نے اُس پھر کریں۔ پیش پر طور کے قربانی کی سلامتی

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| 6 | וַיִּקַּח | מִזְבֵּחַ | חֵזְבִי | הַדָּם | וַיִּשֶׂם | בְּאַנְתָּ | וַיַּחֲצִי | הַדָּם | זָרֶק | עַל- | הַמִּזְבֵּחַ: |
| | اور-لیا | موسیٰ نے | آدھا | خون | اور-رکھا | طشتوں-میں | اور-آدھا | خون | چھڑکا | پر- | قربان-گاہ |
| | H3947 | H4872 | H2677 | H1818 | H0101 | H2677 | H2677 | H1818 | H2236 | | H4196 |

دیا۔ چھڑک پر گاہ قربان حصہ آدھا اور دیا ڈال میں باسنوں نے اُس حصہ آدھا کا اُس کیا۔ جمع کا خون قربانیوں نے موسیٰ

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---------|-----------|----------|
| 7 | וַיִּקַּח | סֵפֶר | הַבְּרִית | וַיִּקְרָא | בְּאָזְנֵי | הָעָם | וַיֵּאמְרוּ | כָּל | אֲשֶׁר- | דִּבֶּר | יְהוָה | נִעְשָׂה |
| | اور-لیا | کتاب | عہد-کی | اور-پڑھا | کانوں-میں | قوم-کے | اور-کہا | سب | جو- | کہا | یہوواہ نے | کریں-گے |
| | H3947 | H1285 | H7121 | H0241 | H0559 | H3605 | H1696 | H3068 | | | | |

وְנִשְׁמָע:
اور-سنیں-گے
[H8085](#)

تمام ان کی رب ہم کہا، نے انہوں میں جواب سنایا۔ کر پڑھ کو قوم اُسے اور تھیں درج شرائط تمام کی عہد ساتھ کے رب میں جس لی کتاب وہ نے اُس پھر گے۔ سنیں کی اُس ہم گے۔ کریں عمل پر باتوں

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|--------|
| 8 | וַיִּקַּח | מִזְבֵּחַ | אֶת- | הַדָּם | וַיִּזְרֹק | עַל- | הָעָם | וַיֵּאמְרוּ | הַנְּחָה | הָם- | הַבְּרִית | אֲשֶׁר |
| | اور-لیا | موسیٰ نے | کو- | خون | اور-چھڑکا | پر- | قوم | اور-کہا | دیکھو | خون- | عہد-کا | جو |
| | H3947 | H4872 | H0853 | H1818 | H2236 | | H0559 | H2009 | H1818 | H1285 | | |

כֶּרֶת
باندھا
یہوواہ نے
[H3068](#)

יְהוָה
تمہارے-ساتھ
[H3772](#)

עִמָּכֶם
بارے-میں
سارے-
[H3605](#)

עַל
بارے-میں
سارے-
[H1697](#)

כָּל-
کلام
ان
[H0428](#)

הַדְּבָרִים
ہمارے-ساتھ
ان
[H0428](#)

جو اور بے کیا ساتھ تمہارے نے رب جو بے کرتا تصدیق کی عہد اُس خون ہم کہا، اور چھڑکا پر لوگوں اُسے کر لے خون سے میں باسنوں نے موسیٰ پر اِس بے۔ مبنی پر باتوں تمام کی اُس

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 9 | וַיַּעַל | מִזְבֵּחַ | וְאֶהֱרֹן | נָדָב | וְאַבְיָהוּא | וּשְׁבָעִים | מִזְבְּחֵי | יִשְׂרָאֵל: |
| | اور-چڑھا | موسیٰ | اور-بارون | ناداب | اور-ابیہو | اور-ستر | بزرگوں-میں-سے | اسرائیل-کے |
| | H5927 | H4872 | H0175 | H5070 | H0030 | H7657 | H2205 | H3478 |

چڑھے۔ پر پہاڑ سینا بزرگ 70 کے اسرائیل اور ابیہو ندب، بارون، موسیٰ، بعد کے اِس

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 10 | וַיִּרְאוּ | אֶת | אֱלֹהֵי | יִשְׂרָאֵל | וַתַּחַת | רַגְלָיו | כְּמוֹעֵשָׂה | לְבַנֵּת | הַסִּפִּיר | וּכְעֶצֶם | הַשָּׁמַיִם |
| | اور-دیکھا | کو | خدا | اسرائیل-کے | اور-نیچے | اُس-کے-پاؤں | جیسے | فرش | نیلم-کی | اور-جیسے | آسمان |
| | H7200 | H0853 | H0430 | H3478 | H8478 | H7272 | H4639 | H3840 | H5601 | H6106 | H8064 |

لְטָהֵר:
صفائی-میں

تھا۔ شفاف و صاف مانند کی آسمان وہ تھا۔ تختہ سا کا لاجورد سنگ نیچے کے پاؤں کے اُس کہ تھا لگتا دیکھا۔ کو خدا کے اسرائیل نے انہوں وہاں

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 11 | וְאֵל- | אֲצִילָי | בְּנֵי | יִשְׂרָאֵל | לֹא | שָׁלַח | יָדוֹ | וַיַּחֲזִיזוּ | אֶת- | הָאֱלֹהִים | וַיֵּאכְלוּ | וַיִּשְׁתּוּ: |
| | اور-پر- | رئیسوں | بنی | اسرائیل-کے | نہ | بڑھایا | باتھ | اور-دیکھا | کو- | خدا | اور-کھایا | اور-پیا |
| | H0413 | H0678 | | H3478 | H3808 | H7971 | H3027 | H2372 | H0853 | H0430 | H0398 | H8354 |

5

اور کھاتے کھانا کا عہد حضور کے اُس اور رہے دیکھتے کو اللہ وہ بلکہ کیا، نہ ہلاک انہیں نے رب تو بھی دیکھا کچھ سب یہ نے راہنماؤں کے اسرائیل اگرچہ رہے بیتے

